

کیمیسٹری

www ilmwala com

باب نمبر: 2

Exercise

1۔ درست جواب کے ساتھ نئان لگائیں:

(i) عناصر کے تیرے shell میں زیادہ سے زیادہ electrons کا تعلق ہے؟

8(a)

18(b)

10(c)

32(d)

2۔ تجربات سے کیا معلومات حاصل ہوئیں؟ Discharge tube (ii)

Atom (a) کی ساخت دریافت ہوئی۔

Protons اور Neutrons (b) دریافت ہوئے۔

Protons اور Electrons (c) دریافت ہوئے۔

Atom کی موجودگی کا پتچار۔ Nucleus (d)

3۔ periodic table میں کیون ہیں دکھایا گیا؟ Isotopes (iii)

4۔ مختلف عناصر کے Periodic table (a) isotopes کی چیزی تعداد کو جانشی دے سکتی۔

5۔ کچھ isotopes کی خصوصیات ہوتے ہیں اور وہ مختلف عناصر جاتے ہیں۔ (b)

6۔ اس لیے انہیں اگر جدیدیت کی ضرورت نہیں۔ atomic number (c)

7۔ اسی طرح periodic table میں کوئی ظاہر نہیں کرتے۔ Isotopes (d)

میں کون سے particle مختلف تعداد میں موجود ہے؟ (iv)

Electron (a)

Neutron (b)

Proton (c)

Electron اور Neutron (d)

کس isotope کی تعداد بارہ ہے؟ (v)

^{17}O (a)

^{16}O (b)

^{18}O (c)

(d) ان میں سے کوئی نہیں

کیا ^{14}N , ^{15}N اور ^{14}N کی abundances کا ترتیب 99.64، 0.35 اور 0.35 ہے؟ (vi)

relative atomic mass of nitrogen کیا ہے؟

14.0210 (a)

14.0021 (b)

14.2100 (c)

14.1200 (d)

اہرین آثار قدیمہ کے لئے کس طرح مفید ہے؟ (vii)

(a) یہ میانی ماٹس کی عمر معلوم کرنے میں مددوٹا ہے۔

(b) یہ ماٹس کی کیمی معلوم کرنے میں مددوٹا ہے۔

(c) یہ ماٹس کی افادرت معلوم کرنے میں مددوٹا ہے۔

(d) یہ معلوم کرتا ہے کہ ماٹس radioactive ہے یا نہیں۔

Nucleus (viii) میں موجود particles کو ایک ساتھ کس نے جوڑ کر رکھا ہے؟

Strong nuclear force(a)

Weak nuclear force(b)

Electrostatic force(c)

Dipolar force(d)

nucleus سے کیسے "ورجے ہیں جبکہ وہاں فارمنگ رکھتے ہیں؟" electrons(ix)

(a) وہاںی جگہ رکن رکن
کے لئے جو دش کر کے

Nucleus (b)

کی وجہ سے like nature -wave (c)

کے لئے جو دش کر کے magnetic field Nucleus (d)

Rubidium (x) کے isotopes میں ساگر بلکے abundance کی فیصد 72.2% ہے تو بھاری

isotope کی abundance کیا ہوگی؟

15% (a)

27.8% (b)

37% (c)

72% (d)

2. سوالات برائے مختصر جوابات

i. جو کیوں کہا جاتا ہے کہ قریباً Atom کا mass کے Nucleus میں مرکوز ہے؟

کیونکہ Neutron اور Proton جو heavy particles Nucleus میں ہوتے ہیں جبکہ mass کا Electron بہت کم ہوتا ہے۔

--ii. عناصر (Elements) ایک ہر سے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟

کیونکہ Element میں موجود Atom کا درجہ تعداد میں fundamental particles کی وجہ پر کوئی تغیرت نہیں ہوتی ہے۔ Neutron, Electron

--iii. ^{210}Bi میں کیسے Neutrons ہوتے ہیں؟

$$210 - 83 = 127 \text{ neutrons}$$

--iv. Tritium (H) کی کیا خصوصیات ہیں؟

کیونکہ Tritium کا نوٹس Nucleus کی تعداد زیاد ہوتی ہے جو اسے غیر ممکن (unstable) کرنے کے لئے اور وہ خارج کرنا ہے۔

--v. ایک Atom کس طرح تو انی کو جذب (absorb) اور خارج (evolve) کرتا ہے؟

جب ایک Electron اک shell سے "ہر سے" جانا ہے تو وہ انی shell کو absorb کرنا ہے۔

3. تفصیلی جوابات والے سوالات

i. جیسے جیسے ہم پہلے shell سے "ہر سے" Electron کی طرف جائے ہیں تو Electron کی قوانینی کیوں بڑھ جاتی ہے؟

کیونکہ shell nucleus سے ایک خاص فاصلے پر ہوتا ہے جو shell nucleus سے ذوق ہوتا ہے، وہاں موجود کے پاس زیاد قوانینی ہوتی ہے۔ Electron

--ii. Discharge tube کا مگریں کا دباؤ کم کیا کیوں ضروری ہوتا ہے؟

تھا کہ اس کے ماجیو لاری تعداد کم ہو جائے اور Electron آسمانی سے حرکت کر کیسی اور اپنی properties ظاہر کر سکیں۔

--iii. Classical Electron کا تصور کیا تھا؟ وقت کے ساتھ میں کیا تبدیلی آئی؟

Classical Electron کے مطابق Electron ایک چھوٹا سا particle ہے جو nucleus کے لگنگر گردش کرتا ہے۔

جدید پیشہ کے مطابق Electron ایک like nature - wave کا لکھتا ہے اور اس کی مقام (location) کو مکمل یقین کے ساتھ معلوم نہیں کیا جاسکتا؛ ہم صرف اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ nucleus کے قریب کس جگہ ہو سکتا ہے۔

iv. Radioactive elements کے nuclei کے غیر مطمئن (unstable) کیوں ہوتے ہیں؟
کیونکہ ان کے nuclei میں Proton اور Neutron کی تعداد کا توازن گزجاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خارج کرتے ہیں اور مطمئن (stable) حالت حاصل کر سکتیں۔

v. Discharge tube experiments کے ویان رائمنڈ انوں نے کیے تھے کہ لاکر قائم elements کے ایکی ٹرم کے Protons اور Electrons پر چلے جانے ہیں؟
کیونکہ جب مختلف gases پر چل پکایا گیا تو ہمیشہ ایک جیسے Protons اور Electrons اٹھتے، جن کی خصوصیات (mass، charge) میں ایک جیسی تھیں۔

4. وضاحتی سوالات

i. Hydrogen atom کی ساخت کی وضاحت کریں۔
Hydrogen atom میں ہنا ہے اور Electron nucleus ایک Proton nucleus کی صرف۔
Hydrogen atom میں گردش کرتا ہے۔
Neutron میں ہنا ہے۔
Electron کے قریب ہنا ہے جسے ground state کہتے ہیں۔

ii. Atom کی ساخت کی تجویزی کس طرح ionizationAtoms کے ذریعے radioactive isotope کی کیا بحث کی جاتی ہے؟

جب radioactive isotope کی Atom سے شکستہ ایون (cation) بن جاتا ہے تو وہ Electron کو کمال سختی سے کھو دیتا ہے اور ایک ثابت آگن (cation) بن جاتا ہے۔
اس عمل میں Atom ایک ایون کھو دیتا ہے اور ایک ثابت آگن (cation) بن جاتا ہے۔

اس طرح atom ionize کیا جاتا ہے۔

radioactive isotopes کی تین استعمالات بیان کریں۔ Radioactivity-iii.
وہ عمل ہے جس میں ایک unstable nucleus radiation کرنے کا کرنے کا عمل ہے۔ Radioactivity
تین استعمالات:

- Medicine-1: کینسر اور thyroid کے علاج میں
Industry-2: دھاؤں اور concrete کی مخصوصی جانچ میں
Archaeology-3: Radiocarbon ڈیٹنگ کے ذریعے پرانی اشیاء کی عمر معلوم کرنے میں

iv. زریعہ زیل معلومات سے relative atomic mass کا mercury معلوم کریں۔

$$\text{Relative Abundance} = \text{Isotope}$$

$$0.0146\% = \text{Hg}$$

$$10.02\% = \text{Hg}$$

$$16.34\% = \text{Hg}$$

$$23.13\% = \text{Hg}$$

$$13.22\% = \text{Hg}$$

$$29.80\% = \text{Hg}$$

$$6.85\% = \text{Hg}$$

$$\text{Relative atomic mass} =$$

$$(196 \times 0.0146 + 198 \times 10.02 + 199 \times 16.34 + 200 \times 23.13 + 201 \times 13.22 + \\ 202 \times 29.80 + 204 \times 6.85) \div 100 \\ (200.59 \text{ amu})$$

5۔ تحقیقاتی سوالات

- i۔ سامنہاں elements میں سے laboratory کو اس طرح تار (synthesize) کرنے ہیں؟
سامنہاں میں particle accelerators کو کرنے کے لئے synthesize elements استعمال کرنے ہیں،
جن میں بلکہ nuclei کو زبردست رفتار سے گمرا کر بھاری nuclei کے جانے ہیں۔
عمل nuclear reactions کے ذریعے کیا جاتا ہے۔
- ii۔ ایک نظام بالکل ہمارے Solar System میں ہی موجود ہے اس بھلے پر تبصرہ کریں۔
جی ہاں، جیسے ہمارے Planets میں Solar System میں Electron کے اگر گردش کرنے ہیں، ویسے ہی shells کے اگر مخصوص nucleus میں گردش کرنے ہیں۔
اور سونت کی طرح nucleus center کی طرح اس کے اگر دیکھ لگائے ہیں۔
اس مثالت کی وجہ سے Atom کا کچھ "mini solar system" کہا جاتا ہے، خاص طور پر Bohr's atomic model میں۔